

130572- بغیر اجازت کے کسی کی طرف سے زکاۃ ادا کر دی تو کیا کفایت کر جائے گی؟

سوال

سوال: میں نے ایک شخص کو 60000 ریال بطور قرض دیے، اور قرض دینے کے ایک سال بعد اس نے میری اس رقم کی زکاۃ ادا کر دی، اور پھر بعد میں مجھے بتلایا تو میں نے اس پر موافقت کا اظہار کیا، تو کیا اس طرح سے میں زکاۃ کی ادائیگی سے بری الذمہ ہو گیا ہوں یا مجھے دوبارہ زکاۃ ادا کرنا ہوگی؟

پسندیدہ جواب

زکاۃ کی ادائیگی کیلئے نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ زکاۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت کیلئے عبادت کرنے والے کی نیت کا ہونا لازمی بات ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَقْبُوا اللَّهَ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

ترجمہ: اور انہیں صرف ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کیلئے خالص عبادت کریں [البیہ: 5]

اسی طرح فرمایا:

﴿وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾

ترجمہ: اور تم جو بھی زکاۃ دو جس سے تم رضائے الہی چاہتے ہو۔ [الروم: 39]

ایسے ہی فرمایا:

﴿فَأَعْبُدْ
اللَّهَ مَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

ترجمہ: عبادت صرف اللہ کیلئے خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرو۔ [الزمر: 2]

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (بیشک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کیلئے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی) بخاری: (1) مسلم: (1907) چنانچہ ان تمام دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر زکاۃ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”زکاۃ کی ادائیگی نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی موقف کے مالک، ابو حنیفہ، ثوری، احمد، ابو ثور، داود، اور دیگر جمہور علمائے کرام قائل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (بیشک اعمال کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کیلئے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی)؛ تاہم امام اوزاعی کا موقف شاذ ہے کہ زکاۃ کی ادائیگی کیلئے نیت کرنا ضروری نہیں ہے چنانچہ ان کے نزدیک بغیر نیت کے بھی زکاۃ ادا ہو جائے گی، جیسے کہ دیگر قرضے ادا کرتے ہوئے نیت نہیں کی جاتی ہے ” انتہی
”المجموع“ (6/158)

ابن قدامہ رحمہ اللہ ”المغنی“ (2/264) میں کہتے ہیں :

”تمام فقہائے کرام کا موقف یہ ہے کہ زکاۃ کی ادائیگی کیلئے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، صرف اوزاعی سے منقول ہے کہ انہوں نے زکاۃ کی ادائیگی کیلئے نیت کو واجب قرار نہیں دیا ” انتہی

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا :

”اگر مقروض شخص نے قرض خواہ کی طرف سے اس کی اجازت لیے بغیر ہی زکاۃ ادا کر دی تو کیا قرض خواہ کی طرف سے یہ زکاۃ ادا ہو جائے گی؟ یا قرض خواہ کو دوبارہ زکاۃ ادا کرنی ہوگی؟“

تو انہوں نے جواب دیا :

”کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے زکاۃ ادا کر دے اور اس نے زکاۃ دینے کیلئے اسے ذمہ داری نہ سونپی ہو تو ایسی زکاۃ ادا نہیں ہوگی؛ کیونکہ زکاۃ کی ادائیگی کیلئے نیت کا ہونا لازمی ہے، چنانچہ زکاۃ کی ادائیگی قرض ادا کرنے سے مماثلت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر آپ کسی مقروض کی طرف سے قرض ادا کرنا چاہیں تو اس کی اجازت کے بغیر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، لیکن زکاۃ ایسے ادا نہیں ہو سکتی کہ جس پر زکاۃ واجب ہے اس کی طرف سے ذمہ داری لیے بغیر آپ اس کی زکاۃ ادا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاۃ عبادت ہے اور عبادت کیلئے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عبادت کی نیت وہی کریگا جس پر عبادت فرض اور لازمی ہے، چنانچہ اگر قرض خواہ نے زکاۃ ادا کرنے کیلئے آپ کی ذمہ داری نہیں لگائی تو آپ قرض خواہ کی نیت کے بغیر زکاۃ ادا کریں گے اور یہ بغیر نیت کے ادا ہوگی جو کہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (بیشک اعمال کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے، اور

ہر شخص کیلئے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی) ”انتہی
ماخوذ از: (فتاویٰ نور علی الدرب)

اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ: (9/245) میں ہے کہ:
”ہر مالک پر زکاۃ واجب ہے، بشرطیکہ حاصل شدہ پھل کی مقدار نصاب کے برابر ہو جائے،
اور اسے زکاۃ ادا کرتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ زکاۃ ہے، کیونکہ زکاۃ نیت کے
بغیر ادا نہیں ہوتی؛ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (بیشک اعمال کا دار
و مدار نیتوں پر ہے) اس لیے مالک کے علاوہ کوئی اور زکاۃ ادا نہیں کر سکتا، الا کہ
جس پر زکاۃ واجب ہے وہ زکاۃ ادا کرنے کی اجازت دے دے۔۔۔“ انتہی

اس لیے مقروض شخص کی طرف سے آپ کی پیشگی اجازت کے بغیر زکاۃ ادا
کرنا درست نہیں ہے، آپ کو اپنی زکاۃ ادا کرنا ہوگی، اور پہلے ادا شدہ رقم مقروض شخص
کی طرف سے صدقہ ہوگا۔

واللہ اعلم.